

# Visit of H. E. Dr. Hossein Amir Abdollahian, Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran to India (June 08-10, 2022)

June 08, 2022

اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عالی جناب ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کا دورہ ہندوستان (10-08 جون، 2022)

08 جون، 2022

اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عزت مآب ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان، ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر 08-10 جون 2022 کو ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اگست 2021 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے محترم ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کا ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔

2- ہندوستان اور ایران کے درمیان قریبی تاریخی اور تہذیبی تعلقات ہیں۔ ہمارے دوطرفہ تعلقات اداروں، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان مضبوط روابط سے روشناس ہیں۔

3- وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران، دونوں وزراء نے سیاسی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان روابط سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں ہندوستان کی طبی امداد کی سہولت فراہم کرنے بشمول ایران میں مقیم افغان شہریوں کو کووڈ-19 ویکسین کی فراہمی میں ایران کے کردار کی تعریف کی۔

4- دونوں اطراف نے علاقائی رابطے کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور شاہد بہشتی ٹرمینل، چابہار بندرگاہ پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چابہار بندرگاہ نے خشکی سے گھرے افغانستان تک انتہائی ضروری سمندری رسائی فراہم کی ہے اور یہ وسطی ایشیا سمیت خطے کے لیے تجارتی راہداری مرکز کے طور پر بھی ابھرا ہے۔ انہوں نے چابہار بندرگاہ کی ترقی میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کی ٹیمیں آپریشنل پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے جلد ملاقات کریں گی۔

5- وزراء نے افغانستان سمیت بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا اور فریقین نے افغانستان کے عوام کو فوری انسانی امداد فراہم کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا اور ایک پر امن، محفوظ اور مستحکم افغانستان کی حمایت میں ایک نمائندہ اور جامع سیاسی نظام کی ضرورت کا اعادہ کیا۔

6- ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ کو جے سی پی او اے سے متعلق موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ دونوں وزراء نے یوکرین کے تنازع اور اس کے رد عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

7- دورے کے دوران، ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے ملاقات کی اور قومی سلامتی کے مشیر جناب اجیت کمار دوول کے ساتھ بھی ملاقات کی۔

نئی دہلی

08 جون، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release